

گوشتن

لکوک
میر گزار خان میری

دفاتری حکومت، و افغانستانی وزارت امنیتی، پروگرام گون

بچی اکٹھی کوئٹہ

بِتْلُ گُواوَر

کوئٹہ

بعد اردو ترجمہ

از گلزارخان مری

ایم۔ اے۔ ایں۔ ایں۔ ب۔ ب۔ ایس، ای رے۔ پچھا

گندچارکنوخ

آنماں پر لفیرن نہ عزیز محمد گنجی
حاجہ نزدیک ہوئے ہے اوزبک جو

بلوچ ایڈیپ کوئٹہ

کلیں حق پے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ

چھاپ کنزخ بلوچی اکیڈمی کوئٹہ
چھاپ جاہ قلات پر ننگ پرسیں کوئڈہ

سری دار ۱۹۸۲

سیکور یک ہزار

بہا ۴ ملدار

ست بیت محمد عارف

کلیں حق پے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشن
بے عزت یئنخ	غیرت جاتی رہنا	آب ۽ رو غ
شرف وال یئنخ	باغیرت ہونا	آب ناخ یئنخ
بے لمح یئنخ	دیکھتے غیرت جاتی رہنا	آب ڪفغ
بے پڑدا کنخ	بے عزت کرنا	آب ۽ کشنخ
وسم یئنخ - وسخ	آباد ہونا	آباد یئنخ
بوٹا کشخ - ختم کنخ	دیران کرنا	آف رو ۽ دلخ
مزن یئنخ بیخ - پردواه نخنخ	قوت برداشت کھن	اپتار ۽ جھول یئنخ
یک رو ش یئنخ - دیران یئنخ	تباه ہونا	آن ۽ کسخ ۽ یئنخ
پڑدا دلخ	بے عزتی کا تلافی کرنا	ادر ۽ شودغ
مژدم ہر بندے ۽ بیت -	ہرن اگر میدان میں ہو	آسک پٹ ایں دے
تب بھی اس کی نکاہ پھاڑ وقتی علک ۽ پہ دعا ۽	کی جانب ہوتی ہے	چم مس کوہ انت
دو بیت -		

آن د آس کنخ	کھانے پینے کا بندوبست	نذر غءہ ہندو سوہو یئنخ
آکیرٹ غءہ کنخ	تکبیر کرنا	لٹ کا مال ہاتھ مارنا
آدار غءہ جنخ	دست غءہ آغ	لوٹ کا مال ہاتھ مارنا
آس غءہ تو سخ	امن کرنا	ہسیر غءہ کنخ - ساڑت کنخ
آس غءہ و دھنخ	تباه کرنا	بر باد کنخ
آس غءہ دینخ	جلانا جہنم میں ڈالنا	شو شخ - پرواد غءہ نخنخ
آس غءہ مان دار غ	بیری بلا سے۔ اگ بھی نہ	منی بلا زانی میں آس غءہ
آسروخ غءہ در غ	رکاؤں	مانداران
آزمان غءہ شہ آغ	کسی کے مرنے کی دعا کرنا	موت پہ بیل یئنخ - سر غءہ
آری چند یئنخ	اسے کیا لال لگے میں	دہمی آں شہ و گہہ یکنخ -
		مزن یکنخ
		مینے کا ذالہ چھیننے کو کہا جاتا
		دف غءہ بچی نیلوخ -

آن عِتْلَغ	ڈر جانا	ترش
آکھر کہن بیٹھ	حافظہ کمزور ہونا	شموشکار بیٹھ
اڑمکس بڑگس کتف	ہمال مشول کرنا۔	اعز مغر کتف۔ مرشی بانگھوڑ
آخر موت انت	موت کا قرضہ سب نے ہر کس عِمر عنی انت۔	کتف۔
آخر عِتْلَغ وخت بیٹھ	قریب الرُّ ہونا	ہر عنی بیٹھ۔ حکان بشکع عِ
آلو ما لو دینغ	اند و دھند بارش ہونا	وخت بیٹھ
آندرا آفار بیٹھ	ڈمکر ڈمکر کتف۔ بھور بیٹھ	باز ہور گوار غ
آندھی مان کتف	اڑنگی دینا۔ کام لے کا ڈننا	اپنوں کو نقسان پہنچانے
آندھاری کتف	میبیت میں ڈالنا	دل جند ع غان تنگ کتف
آنماران آف دینغ	جمبوٹی سیاں دینا	دل دہش کتف۔ وتار پرانغ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشن
لوغی بر کنون خ لختغین	آفت کا پر کالہ	آسی چاٹال بیٹغ
ڈیمہ پیٹغ ن، اڑاٹغ	آسمان سر پر اٹھانا	آزمان ن، سر، زیرغ
دیم و پد، ڈک نخنن -	آگا دیکھنا ن پیچا	اگہہ و پدا ن، گندغ
پرچ شے ن، پرواہ نخن		
گوستغین ٹوکانی گر آرغ	وفتر کھونا	اویلی پوتیانی پیٹغ
گہہ و بد ن، خنخ	پکھونہ کہنا	الف ن، شہ بے ن، گوشتن
ایدا پرچ شے دست ن،	ان تکوئ میں نیل نہیں	اے پڑ، پ کڑھی ن، بچی
ایت -		نیست انت
بے حد گرمی بیٹغ	انگارے برتا	اس ن، رشغ
ملک ن، الخ	ہجرت کرنا	الکہد الخ
ہے ہے کنغ - ارسانی	کف انسوس مٹا	ارمان کنغ
بیٹغ - شوشوری بیٹغ		
ہیرات ن، کنغ - سواو، کنغ	خدا کے نام پر خیرات کرنا	الاہ نام ن، ہیرات
بازار زان بیٹغ	پانی کے مول پیدا	آف ن، بہا بیٹغ

گوشتیں	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
اشی آں ہند کر آس بلیشی رشن گمبوخ ۽ گرغ	جس تن لاگے۔ سوتن جانے کر سر ۽ گوشیں بلائے ناگہانی کا سر پر آنا ہمہ اٹی گڑاہ ۽ کنخ: کس ۽ را کسی سماں نیون محشر بربا ہونا	کمی ہواں بنت کر سر ۽ گوشیں کمی ہواں بنت کر سر پر آنا کمی ہواں کنخ حد سے گزنا۔ پانی کا سر سے کارے ۽ شر پوج ۽ گزر اوپنجا ہونا۔
آن دشیر ٻیئن آنمان ۽ گرغ	ایک جان دو قالب ہونا آسمان سے باقیں کرنا۔ بعیر جا پنج پرستاں کے اشیا کامب ددمب ۽ سودا کنخ	دین ۽ یئن - سنگتی یئن چبحن ۽ ہند ۽ شہ در یئن چھانی برلن ۽ سودا کنخ کامب تبادلہ کرنا۔
آزمان خشہ بڑزا زمین اُنگک بن	جان میں جان آنا	ساهی آسائیں حکم ۽ پہ جختی ۽ یئن
آس و آف ۽ وقار سنخ آس نیئن دلگرغ	آنگھیں بند کر کے حکم مانا آگ بگولہ ہونا	حکم ۽ پہ جختی ۽ یئن باز زمہر گرغ - جھگ ۽ جنخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
ارمان ۽ پلیو نه دینغ گوات ۽ کنفع - وڈائی ۽ کنفع	دل کی حسرت رہ جانا آسمان پر مخونکنا	ارمان ۽ گور ۽ برغ آزمان ۽ سبک ۽ جنخ
دنیائی کارانی الغ - کندے ۽ کنفع	تارک الدنیا ہونا	الله ۽ الماء کنفع
مشکل میں بھپنا - آندھار ۽ کنفع - دکھی یئنخ	میں ہونا	استاری یئنخ
زور دشوار سے کام کرنا		اڈھ گراغ
آسمان ٹوٹ پڑنا		آدمان وزمین ۽ یک یئنخ
فادر بپا کرنا		اس ۽ روخ کنفع
آستین چڑھانا		آستین للبخنخ
وہا لہے کو کافتا ہے۔		آسن ۽ آسن ۽ گدیت
آسمان پر چڑھانا - بہت زادہ آزمان ۽ چاڑغ - باز		اراہ ۽ پرد ۽ ورگیشغ
ٹوز ۽ دینغ	تعریفیں کرنا	

ب

گوشتیں	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
بال گرغ	پھولا نہ سانا	پہ وہشی کمال کنخ - باز ٹھبری عَرْبَيْخ
بانز کافی بھور یئخ	اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا	بانڈو عَرْکوہ یئخ
بانڈو عَرْکوہ یئخ	بہت اہم اور لازم ہونا	بانڈو عَالِمی یئخ - ہواں شے کہ ہوانہ عَالِمی
باغل عَکنخ	منہ چڑانا	سوا کار مریت ڈالی آں عَکنخ - ملند عَکنخ
بانکافی باوا یئخ	بے مقصد زندگی گذاننا	بے کارغ یئخ - بے سدھ یئخ
بازار یئخ	اذا یئں دیتے پھرنا	لاف تادان یئخ
بازار یئخ	آباد یئخ - خوبصورت ہونا	آباد یئخ - آباد یئخ - شہر یئخ
بازار اسارت یئخ	بازار کا مندا ہونا	دیلان چیلاک یئخ - دیکلن پرواه عَنخنخ
باز عزمرغ و حلاک یئخ	مساب سے ماوس ہونا	مساب سے ماوس ہونا

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	تکشیف
بلندیوں سے پستیوں میں گزنا		بام بُرْشہ ایر گُنڈر غ
بستی کنخ - دہمی رپا بند	شرط بدلتا	بتوں ۽ بلغ
کنخ		بدئں بند غ
بوہر ۽ یکلخ - یک روٹل کنخ	تباه کرنا	بٹالی کنخ
ہونگ ۽ دینخ - سٹ ۽ جنخ - اٹھر ۽ دینخ	زبان شدہ دولت	بد لغیں بیڑی
پہنادی ٹوک ۽ کنخ	شیخی بگھارنا	بٹا کانی دینخ
زیرغ - رنجابی سُنخ	بل رماننا	بدری رغ
سجنت ۽ نہ بھرا ڻینخ - دیلی - دردی - گزیو -	لفیبوں جلا	بد سجنت ڦیلخ
چمبھڑغ و جکعن - جکعن	کسی کام کو سلسلہ کرنا برجت کرنا	بد رو ڦیلخ
انیشنخ ۽ لکیا	قشت کا کھیل	بختاں بازی

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
بخت نہ بھڑا یعنی بخت اُنگتی	قسمت کا ساتھ نہ دینا	بخت اُر یعنی
ندریغ		
بخت اُر سنگت یعنی	قسمت کا ساتھ دینا	بخت روپہ باس یعنی
مڈی اُر پھو پہ ملٹڈا ہر یعنی		مڈ اُر جنگ
ست عرب یعنی بتون مرکع برخوبیں	باتیں بنانا	ٹلاک اُر دیر
ٹوکانی کنخ	چندھی ٹلاک رپغائیں	
	مہراں و گوتاں رپغائیں۔	
	(نلی اُر شیئر)	
باز مال دمڈی یک ہند کنخ	بہت زیادہ مال و دولت جمع	بدر بار یعنی
	کرنا	
بد پیل یعنی	بد خصلت ہرنا - جاہل المطلق	بد و یعنی
بد دعا یانی ہند کنخ - بد دعا یانی	بد دعا دیں کے زیر ہونا	بد دعا یانی گند رغ
گر غ		
اندھہ کلات جیسے بیٹی کے مرکماں گرانیں مزاٹیں غم		بچان غم یعنی

گوشتیں	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
بر جاہ میٹنے	اپنی جگہ پر ہونا - امیر ہونا	سو گہہ بیٹھنے - ہندی بیٹھنے - ہندو
برکت کرنے	معتبر ہونا	گندع
بر دنال شنسن رنے	بڑھ جاتا - زیادہ ہونا	ودھنے - باز بیٹھنے
بر د کفغ	جران ہونا	ورنا بیٹھنے - زدراخ بیٹھنے - بر دنال
برانی نہ واجا حصہ	بیابان میں مصیبت دچار ہونا	لوڑ بیٹھنے - توخ ورنا - اوزشیں
برانی کوفن نہ دینے	من جنگل و بربے دیں ۽ چک ۽ آغ -	ورنا ۽
برانی کوفن نہ دینے	نوٹس نہ لینا	نگندع - دیم ۽ پنجھر نہ نہ
برانی دیانہ	دکھ سکھ بانٹنا	ستکتی دینے - پوڑی ۽ یک کتنے
برانی دیانہ	خوبصورت ہونا	برانی گوانک ۽ دینے
بدیردت	بھائیوں کے سہارے	ہماذ رانیٹنے - سنہرہ رانیٹنے
	پرسکون زندگی گزارتے ہیں	

گوشتہ	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
بروتالی ریز دینغ	بہت بہادر۔ نڈر۔ موت سے آنکھیں دوچار کرنا گوں صدایات پلاؤ بندی	بہادر۔ موت دنے یکوخ بھڑی مردو
بروتال ریزدا کستدی	میرزبورغ و دل برات میر صدایاد بر گوں پلاؤ بندغ	میرزبورغ و دل برات میر
حجم علی عربیارت	محاسب سے چھڑانا۔ قروائی دل انا رانی آت دینغ	دروغیں وعدہ کنوخ
برٹغان کشنغ	اے تر عزمالی گند عین ٹکلاں برٹغان کش آں کلان گول تی ایں دلاں	پرا مورخ
بز پوست یئن	ڈھیٹ ہونا	گوشتنی نہ مخون۔ جال بر پرخ نہ بردخ

گوشن	اردو ترجمہ	بلوچی زبان
بزرگ و احترام کرنے	بھروسی کی طرح ڈرپوک ہونا	باز تردد سونخ بیٹھ راہ پر کرنے
بزوغ نہیں	چھٹے پر بلیٹھنا - امیر ہونا	کنون شہزادہ کرنے
بزوغ نہیں	آبرو جا کے نہیں آتی	گرہ بیغ - پلات نہ کرنے
بندہ دنیت	صلیبی دنیت ولی مراد	بھاگیان بیٹھ مددی والی بیٹھنے
بلانی مرید تحریت آغ	بیابانوں کی مریدی سے ملاقات	عزت کے ایرکپتہ نہ رواہ نہ موریت
	ہونا - کام بن جانا - عینی مدد	مردم ہواں ملیت کر نیت کرنی
	حاصل ہونا - نوٹ - بلوچوں	برو بیوان نہ کار نہ بیج
	کا خیال ہے کہ خواجہ خضر کی	
	طرح شہ مریدی بھی تا قیامت	
	زندہ ہے اور لوگوں کی مدد کرتا	

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
	مرہتا ہے -	
مادن فائزہ عَ لوعَ دکا انت - مال ولی وسم عَ جوان انت -	گھوڑی اپنے تھان پر خوش ہے	بورگوں دا زیماں دارین انت
باز بیشغ - بھاگی کرنغ پرلپشت عَ بگشغ گٹ ہشک بیشغ راستیں او سدھائیں ڈک عَ کرنغ	خلعت فاخرو غایت کرنا غیبت کرنا حیران و پرلشان ہونا پسح پسح بتانا - فہم زبان میں گفٹکو کرنا	بور عَ بیشغ بولڈیشغ بودھا ٹدرغ بلوچی کرنغ
پسح پرداہ نر کرنغ جوائیں دخت عَ بیشغ - سوکا بیشغ	کان پر جوں تک نر یگتنا آسودہ حال ہونا	بور ٹر عَ دے نر درغ بلوچی گزران عَ بیشغ
زوان عَ دیلغ - صور عَ کرنغ ولی دوغ - ولی ہند	پکا وعدہ کرنا اپنا گھر ہوتا اپنا وطن	بلوچی زوان عَ دیلغ بلوچی دلیں بیشغ

لاغزیٹنخ - بے داڑہ یعنی	بدحال ہوتا	بومان پ سرو زیرخ
بوٹا ترود کنخ - بند کشنا	زنخ کنی کرنا	بوٹا کشنخ
بھجوپ یعنی - بغل ا بو کنخ	جا سوئی کرنا	بو غ کشنخ
ہمارے بھی دن پھری گے منے روشن دے کامن	قسمت کا جائی	بولان مار کنکت
ہر ماں سے جو ایں دخنے کے واہو چیک کنخ - پرات کنخ	دوا دیلا کرنا	بھینڈی مڈبر آغ
یگر منخ	سر کھانا	بھینڈ رو یعنی
وت آورخ - ستا کنخ - سرو	مکھڑے اڑانا	بھجا درخ
ترمنخ	او بنا نا - بجانا - احمد بنانا	بھنج د بھکڑا کنخ
بے جونخ یعنی - کشنخ در رخ راگ ولنخ - راگو کنخ - ملنڈی	قسمت کا جائی	بھولوڑا یعنی
کنخ		بھیدی آپڑخ
بخت نہ بھڑا یعنی - سوب نہ		
کنخ		

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گزشن
بہشت ئے باخاں با۔ دیم ئے	خلد آشیاں۔ جنت مکان	بیشاں با
جو ان باقی		
سہٹ دھرمی کرنا۔ جان نے بینگ دپنیر بیٹھ۔ جذوں لئے	چھوڑنا	بیٹھنے دلکھنے
بے اندازہ دولت	دولت کا بے شمار ہونا	بُراغ۔ درشن
پا پا۔ یوان۔ اولاک سادہ	مٹی کے مادھو	بے زار کیں ڈاچی
ایں مردم		
بخت علاگار بیٹھ۔ دلکھی بیٹھ	شومی قسمت	بے بختمی آغ
کورہبادر، بھڑ	ازحد بھادر	بیلو مزار
بیکاری گرے بیکار کس موا	بیکاری یتبھے کا بخار ہے	بیکاری سرتانی لف انت
بے جڑیں گزندو گراغ	ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہونا	بے جڑو گزندیں ہور
جان ئے بھی نے براغ	بے حیا باش۔ یہر چھ خواہی بکن	بے حال بارشاہی
و غ کر مولی نہ بینگ کوچ کئے	جب گھر ہی نہیں تو کتنے سے کس کی رکھوالي کراؤ گے۔	پہنگ کردار و مجوہ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
پوک پنځ - بے قائمہ ایں زندګی گواز پنځ	کتے کی موت مرزا۔ یعنی قصد زندگی گزار کر مرزا	بے پورا روغ

پ

آزمان ۽ درگیز رغ	آسان پر چڑھانا	پار ۽ چار دغ
مژدار یا ملکری ۽ پاغ ۽ بندرغ -	تا جپو شنی کرنا	پاغ ۽ بندرغ
گل پر رغ - وہش پنځ - سوکا پنځ	جاءے میں پھولانے سانا	پاد من ڈغار ۽ نیا رغ
بیل و شکار - جرزغ - ڈیہ	چهل قدمی کرنا	پاد دراثی کنخ
سودا ۽ کنخ		
ڈڑی کنخ - دیلی کنخ	کرب میں بتلا کرنا	پالویا پیلو شع
چھوڑی کنخ	مصیبت میں چھنسنا	پڈا ۽ کفخ

گوشنے	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
پاداں کفخ	منت زاری کرنا۔ پاؤں پڑنا	پاداں سوت ۽ لائن
پاداں جمی یکن	جُوقی برابر سمجھنا	منت کفخ
پادے می گور ۽ بیٹخ	پاؤں گور میں لٹکائے بیٹھے	بچی نہ یکن۔ بے عزت دلکن بے منگو شان یکن
پادانی گرزا دینغ	ذلیل کرنا۔ بے عزت کرنا	مرد خ۔ زندھ ۽ روشاں کم بیٹخ
پاش ۽ شاہی کفخ	مرغے کی ایک ٹانگ	بے پڑوہ کفخ۔ بے عزت کفخ
پاؤ شاہی کفخ	پیسہ پیسہ جوڑنا	کپہ ویلاں زر ۽ یک ہند کفخ
پادو گوڑخ ۽ نیلغ	آرام کرنے نہ دینا	آرام ۽ کفخ ۽ نیلغ۔ ساہی
پٹ وہٹ کفخ	لعنٹ ملامت کرنا	آسائیخ ۽ نیلغ حیا بے حیا کفخ۔ ڈھلانگ شنخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتہن
پاٹیا ۽ روغ - پڑس ۽ روغ	فاتحہ پر بیٹھنا	پسترانی نندرغ
بے پٹ یئنگ - بے انتبار یئنگ	اعتبار کھونا	پت ۽ بر یئنگ
بازدہش - کس نزدیک	محبوب ہونا - پیارا ہونا	پی بندر یئنگ
بازکیمیں پرک - گش ۽ کر برادر	انیس میں کافر ہونا	پٹ ۽ پرک یئنگ
بدنام یئنگ - بدین کار ۽ کنخ	بدنام ہونا - برا کام کرنا	پٹ ۽ کٹنگ
گھج ۽ سہر ۽ کنخ	راز فاش کرنا	پدھر کنخ
روانہ ہونے پر تیجھے سے لفرغ ۽ دخت ۽ پداشہ	لفرغ ۽ دخت ۽ پداشہ	پر گواہنک کنخ
گواہنک ۽ جنگ	آواز دینا (بڑا شگون ہے)	
ڈس کنخ - مڈی ڀئنگ	درالیہ کرنا	پنجاراں گوں دینخ
بدحال یئنگ - لا غر یئنگ، دردی یئنگ	بدحال ہونا	پنجارغ ۽ رہناں روغ
پیکار یئنگ - بے بہتار یئنگ	نالہی ہونا - نالا لٹت ہونا	پرو یئنگ
نالغاخ یئنگ	بے اتفاق ہونا	پرو تماں کنخ
شر ڏڑاں پرانی چک ۽ ونسخ	کبوتر کی طرح لوٹنا	پر پیٹی کنخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
بازدھوی کفون	بہت تکلیف دینا	پڑزی پیوش
وتارا گہہ کفون - ٹوس کفون	پھونک لینا	پرگانی بال دین
مسک دینغ - دری بیش	پس پشت ڈان	پشت جنخ
بے کار بیش - پیچ کار نہ آؤخ لغور بیش.	کھو کھلا ہونا - بیکار ہونا	پسپیں ڈامڈا بیش
دیل کفون	مشکل میں چھتنا	پات کفون
دو شخ درعب نویت	بھیک اور نحرے	پندغ و پندغ نویت
وتار چیش - لگورانی رندغ	سول سنگھار کرنا	پن و مزاداک کفون
خاخاں ادار کفون - بے عزت	آبرو خاک میں ملانا	پوز کا برغ
کفون		
زہر گرغون، سٹوبیش - دہش	ناک بھوں چڑھانا	پوز کا گوات دینغ
نوینغ		
شدان شاہدی - نیز کار بیش	کچھ بھی پاس نہ ہونا - دوقت	پر کون دن کفون کا پا
	کی روٹی کو محتاج ہونا -	نوزون

عزت اُشتہرت کنخ۔ گرائیں	عزت داؤ پر لکانا	پوز اُشتہرت کنخ
شرط اُبندغ		
ہواں داج گڑ دینو خیں شے۔	لیا ہوا قرض جے بہ حال والپس کرنا ہے۔	پوریں کدھا یبغ
اڑھ دیلغ۔ دروغ بندغ	طور باندھنا	پلور ریلغ
کیں اُ باز کنخ دُسخ		
داج اُ دیلغ	دشمن کو موقعہ فراہم کرنا	پہناد اُ دیلغ
جیا بے جیا کنخ۔ بدگشخ	سخت سست کہنا	پہ جھیڑ وال بندغ
ہے زنگیں خراویں کارے	ازالہ مشکل ہونا	پہ بُر کنخ اُ بیسراں یبغ
کنخ کہ پیلو مولیت		
بدگشخ۔ طعنہ دیلغ	طعنہ دینا	پہ شغانال بندغ
تیروں سے چھلنی کرنا۔ قتل کرنا		
چیار دست یبغ	سر پر پاؤں رکھ بھاگنا	پینزاری مس گو خ اُ مان
ہیئت اُمال۔ دست اُکوہ ویں رکھ عین	تربانی کا بکرا ہونا	آغ
		پسراہی پس یبغ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتیں
ہر دخت میں پنڈھ عینے	پادر کا بہن	پنیر، پنچار
چڑو میں کاریا جنگ عینے		
وقتار شہ سری کو شاربیٹ عینے	اپنے راستے سے ٹھاٹا ،	پیشی کنے
دگ عاشہ دیر کنے	مردا دینا	
محبت ع کشنے قسمت ع	قسمت جاگ اٹھنا	پیر، گوانک دینے
بھڑا عینے		
لغور پس کارہ نہیں	تاہل عزیز کسی کام کا نہیں	پھر گوڑا دے نیں

ت

تابہ کرنا۔ بر باد کرنا۔ دودت تختہ کنے۔ یک روشن کنے	تابہ کرنا۔ بر باد کرنا۔ دودت تختہ کنے۔ یک روشن کنے	تابع بھوریٹے
دیران کنے بر باد کنے	کی روٹی کو محتاج کرنا۔	
بھی ساڑت بیٹے۔ باذگر بیٹے	چوبہا نہ جانا۔ کھانیکو محتاج ہونا۔	تابع بھارت بیٹے

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	آشنا
بُلی ساڑت ڦیڻغ - بازگر ڦیڻغ	چو ٻاندہ بُلنا - کھانکو محتاج ہونا	تا فع و تُشغ
گریو ڦیڻغ - گزور ڦیڻغ	گریو ڦیڻغ - گزور ہونا - مغلس ہونا -	تام ش کفع
تے تاں مزارے ۽ ٻاډا ڳ	تم کوں سے بہوت ہو (ایک بہادر قبیلے)	تال نہ ہوت ۱۶ سے
ویل ۽ کفع - ڏکھاں کفع تامڑتی در غ	میصبت میں گرفتار ہونا	تاز رو ٽیلانک ۽ کفع
باز ڏکھی کفع - ویل کفع	سخت ٽنگ کرنا	تام ۽ برع
دردی کفع - ڈکر ۽ جھور ڦیڻغ ٽنگ کفع - دا گوشان کفع	چھاتی پر موگ دنا ناک میں دم کرنا	تا دردی دینغ تا کفع
سودا کفع - یک سلاہ ڦیڻغ	ناٹھ پر ناٹھ مارنا	تامڑی جمنغ
پنج کارن ۽ نیارو خ ٻیکا ڦش	کس مرض کی دوا ہے	تال ڦپ ۽ درمان انت

عہشن	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
بُلغا	بھان کا کھانا کھائے بغیر	بھوتار ۽ بے عزت کنغ
بلا اجازت	چلا جانا	میزبان کو بے عزت کرنا
تباہ کرنا	میران کنغ - کشخ	میران کنغ - کشخ
جو گرتے ہیں برستے نہیں	سٹاؤٹک ۽ مان ات	ترنیں مادن و مسیں
زال تکال دیا بازی آی	باکمال ہونا - باجوہر ہونا	بھڑپیٹ - ناغ ۽ دال پیٹ
ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہونا	ہمت دال پیٹ	ہمت دال پیٹ
پس پیٹ	شہ راج ۽ دری پیٹ - شہ	براتاں سراغ
نادان دوست سے دانا	نادان دوست	نادوہ عدالتی ۽ شہ مرداو
دشمی اچھا	دشمی گہرات	دشمی گہرات
تم بھی خدار کھتے ہو۔ خدا لگتی راست ۽ گشخ ۽ پہ صدائے	لارے مُرا است ات	قسم ۽ دین
کہیں		کہیں

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتیں
باز تر ڈسونخ	سائے سے ڈرنا۔ ہندوکی طرح ڈرپوک	تڑس ۽ بقال یئنځ
باز تر ڈسونخ	سائے سے ڈرنا۔ ہندوکی طرح ڈرپوک	تڑس ۽ ریک
مرغ ۽ رند ۽ عالم ترٹ انڑو بیتعال (سیہ کوہ یئنځ)	شیرازہ بھرنا	تترٹا ترٹو یئنځ
یک ۽ یک یئنځ		
مردیر ۽ حالوارا تلاک داشتی	طلاق دینا	تلاک دین
سین دینغ۔ یئنځ دین		
گریو ۽ بھڑائی یئنځ	کمزور کو سہارا دینا	تستیں آس ۽ بالغ
بے عزت کنځ۔ پٹ ۽ دین	لعنت بھیجنا	تُک ۽ جنځ
پرواہ نخنځ زیحر ۽ نیکنځ	خاطر میں نہ لانا	تک ۽ ایره نویں
سونے کرز بگ نہیں گلتا۔ خاندان جوائیں شے خزاد نویت		تنگو ھسیں ۽ نہ دریت
جوائیں ڈھلانویت۔	آدمی ایماڈار ہوتا ہے	

مُرثتن	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
تگیں مژد براتانی برات دے زانت	تندست بھائیوں کا بھائی نہیں شمارہ ہوتا	بے زین مژد و کس وقت کام نہ خنت۔
تگوں تو ریشم تگوں قدر ریز	سو نے کے مول ہونا	گراں مرل بیٹھ قدر والی بیٹھ
تگوں قدر ریز زر گزرانت	قدر زر زر گر بداند	مال عہداں مالدار مژد قدر مژدارزا
تگوں تر غ	از حد پیارا ہونا	باز دوست بیٹھ
تس دپداں بیٹھ	مرت وزیست کشکمش میں	مرت پاتار بیٹھ موتی
تگوں تبو بیٹھ	متبلہ ہونا	بیٹھ
توروں بار کنخ	سہارا ہونا آسرا ہونا	ہیل ہند جان ساری ساری کشوخ
توپان کنخ	احسان جانا	
توپان پاد آغ	تباه کرنا	
	طفاق انڈا نا	

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنہن
کوشاں گرغ - تو بیہات ا پڑغ	جیسے گیدڑ نے چڑکے نچیلے کے ساتھ کیا کان پکڑنا	تلخ عَگُول اپان عَرَکتہ تو رزہ سخت
"	کان پکڑنا	تو بیہات ا پڑغ
وٹ پڈائے رلن	آبیل مجھے مار	تلخ عَبے بختی زیر گوشتی حدانیلی زدار سے بیار
		تو لگ پیشہ گوانگ عَگیر شتر
بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے		ذ داریت
	میاں سجان اللہ	
ہر دخت ا کس پر لفڑا ن اے	گیدڑ ہر لات چھنتے ہیں لیکن حلوہ ہنیں مانگتے	تو لگ ہر شے ہول انت بے حلوہ ن لوثت
کئے کی موت آتے ہے تو مسجد چوشیں کارے کنخ کر جدا لنسان بیا۔	کھانے دوڑتے ہے۔	تلخ کر بختی ا زرہتہ شہر تھجی ا

گوشن	اردو ترجمہ	پلوچی ترجمہ
تہار و سادے مردم اُملکیت	اذھیرے میں سایہ بھی ساختہ چھوڑ دیتا ہے۔	دیل سختی تو جنے دے گریں بنت۔
تئی دن اگر کسے بھرا	تمہارے منہ گھی اور شکر آپ کی لات میری آنکھ	دہش و دلخواہ گشت
تئی لقع منی چم	بیکھانا چھوڑنے والے کو کہتے ہیں کہ تم میری دم تو نہیں ہو۔	زندہ کفونخ و گشت
تہ منی درب تئے	آپ مرے، جو میں نہیں ریا	جنہوں نیکو خ و گشت
تہ مرتع و من بگردیہ	تمہاری مراد برآئی	تڑاٹ کے بے کہ مس ڈھوڑا زہراں۔
تئی گرگ گز دانت	کتے تیرا منہ نہیں تیرے	تئی دل و کار بیتہ
تید کک ک جنڈا ن	سائیں کامنہ ہے	تید کک ک جنڈا ن
ملان انت	عذاب میں ڈالا	درڈی کنخ - دیلی کنخ - نادری
تیلان تاریغ	دینے	

ط

بُرچی زجہ	اردو ترجیح	گوشتمن
تُر دُلائُغ - لحاظ دُکنے	چھوٹی لحاظ رکھنا	ٹال دُن بھورینغ
خیال کنے	لحاظ کرنا	ڈال رکنے
کفخ دکھڑ دینغ	ٹھوکریں کھانا	ٹاپراغ
سلا بلا پندھی کنے	مفت کے چکر ڈالنا	ٹپ دِلائ
دُریں ہندا ہازغ کنے	نک پاشی کرنا	ٹپ دِلینغ
لہیں ڈکر دکشنا	پودے خاندان کو صفحہ ہستی سے مائنا	ڈکر دِ صالح کنے
ٹک دایر دینغ - جگو دینغ	کلنک کا ڈیکہ ہونا	ڈک دینغ
ٹک دایر دینغ - جگو دینغ	کلنک کا ڈیکہ ہونا	ڈک دایر کنے
بازار دزاں دینغ	بہت ارزاس ہونا	ٹکا سیر دینغ
دردی کنے	تنگ کرنا	ڈکری تایافن
بدنام کنے - خوار کنے	ذلیل کرنار سوا کرنا	ڈکری د بھورینغ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	امیر شتن
بازگریو بیخ - دہمی آں چدار بیخ	ٹھکر ڈول پر پڑے رہنا	بہان ھیل بیخ
شاکار غ - خیال بیغ بکونغ	ا بھارنا۔ انگشت کرنا	ٹب ٹب دیلغ
حالدار ڈیم ڈ برع	بات کو آگے بڑھانا	ڈک ڈک جزانغ
ٹوکے ڈ بجھو دیلغ جھنگڑا کرنا۔	بات کو راز میں رکھنا تکرار کرنا۔	ڈک ڈک ڈب دیلغ ڈک ڈک ڈکنغ
چھڑو بیس کالی انت - پھنوں یں ٹوک	باپیں ہی باپیں ہیں	ٹوکان ٹوکان
ٹوک ڈ گرا بینغ - مینبغ	اپنی ہات منوانا	ڈک ڈ ہند دیلغ
حالدار ڈ نہ شجو شغ	حقیقت ظاہر کرنا	ڈک ڈ سرا کنغ
اشتائی - سد صافی - ہواں ساصتی	بات کو گروہ میں ہاندھنا باتوں باتوں میں	ڈک ڈک ڈک ڈکنغ ڈک ڈک ڈک ڈکنغ
ناوار ڈ شہر کلہو ہاوار در کنفیٹ	بات سے بات نکلتی ہے	ڈک ڈ شہر ڈکنفیٹ

بُرچی ترجیہ	اردو ترجیہ	خوشنام
نیام ۽ پالوار ۽ گڈغ - دہمی	دخل در عقولات ہرنا	ڈک ۽ گدغ
ڊوف ۽ شرک ۽ پلخ		
بے واجیں مجاہس	بے سروپا باتیں	ڈک ۽ سرد سب ۽ نیلغ
پالوار حلاں انت - ڈک ۽	قصہ کوتاہ	ڈک ۽ کٹھ
یک ڈک		
سوچ بونج ۽ کنخ	بات کی ٹوہ میں رہنا	ٹک ۽ رند ۽ گر غ
دیکھ پ کری آں پرخ	ہاتھ میں دینا	ٹول ڏست ۽ پیلغ
پالوار ۽ گرے ز پیخ	بس نہ چلنا	ڈک ۽ ہند ۽ نگر غ
گوں ستی ۽ پالوار ۽ کنخ	سیدھے منہ بات نہ کرنا	ڈک ۽ پ گردن ۽ کفع
بھڑ مرداری ڏاسخ		
درڈی گواز نیغ سختی ۽ گھولک		
باز ڏکھ کنخ - جان ۽ نہ پار نیغ	سر توڑ محت کرنا	جان ۽ گھانع
	جان مارتا	جان ۽ جان نہ لکھ

ج

جان اُسارت کنخ	دل مٹھندا کرنا۔ ارمائیں نکانا	دل مٹھندا کرنا	جان اُسارت کنخ
جان اُ پہنچنے غ - مرڈائی اُ	پہلو نہی کرنا	پہلو نہی کرنا	جان اُ ریز دینغ
ڈتاکیک پلوغ دار غ -			
سنگت اُ لک اُ دینغ	دوست کو گندھا دشنا	دوست کو گندھا دشنا	بام میں جایں کو فغاں داشنا
گریو غن - دوغ اُ لکڑ ہو دے	مشکوک الحال ہوتا۔ کفن کو کوڑی	مشکوک الحال ہوتا۔ کفن کو کوڑی	باہماں سری پیدا نولغ
پیری ندینغ	نبیں	نبیں	جان اُ بچی مہ بسغ
بر پوست بیغن - بے پردہ اہ	زندہ بے حیا ہونا	زندہ بے حیا ہونا	جان اُ بچی مہ بسغ
لامسا			
بے فائدہ ریں ٹوک اُ کنخ	خواہ مخواہ باتیں کرنا	خواہ مخواہ باتیں کرنا	جاڑی آنی کر کینخ
لڑزغ - چندزغ - گواہ پا ترڈس	روان رو ان کا نپنا	روان رو ان کا نپنا	جان اُ بڑل غ
شہ لڑزغ			
منڈنڈر کنخ - چپ نخنخ رکو اُ	منہ بسونا - دکھر کرنا	منہ بسونا - دکھر کرنا	جترہ جھوٹنخ
دراز کنخ -			
مرک کنخ - بیلہڑی کنخ	معافی مانگنا۔ پشیان ہونا	معافی مانگنا۔ پشیان ہونا	جنک اُ دف اُ کنخ
یکنخ گردن اُ دینغ - دیر لکنخ درن	سویلی ماں کا سلوک کرنا۔	سویلی ماں کا سلوک کرنا۔	یکنخ

بلجچی ترجمہ	اردو ترجمہ	معنی
بڈیں ہا لو ار عَکْنُغ - کو جپیں ڈک	بے ہو دگی کرنا	جنع عَکْنُغ
عَکْنُغ		
با ز دہش بیٹھ	جلبے میں بچپولانہ سماٹا	جزاں درکنخ
دہش نیٹھ پہ دہشی عَ بال ہ	بے حد خوش ہونا	جزاں ہند عَ خنخ
کنخ		
با ز گریغ - یعنی عَکْنُغ مام	بادلوں کی طرح برستا۔ بہت فڑنا	جرطی جیہسی گوارنخ
ما تم کرنا - کسی کی یاد میں آنسو عَکْنُغ	ما تم کرنا۔ کسی کی یاد میں آنسو	
	بہانا۔	

صہ بہڑی جیہسے کناف گوا راں

اڑاں بیور غ سینگھاراں (رحم علی)

۱۹۱۸ء کے جنگ آزادی کا مجاہد جو مری انگریز کے جنگ ہڑب میں اپنے بھائیوں

میر خدا بیداد خان میر نہالان کے ساتھ شہید ہوا۔

جنگ ک سنگتی دین - ڈنڈی بیٹھ	شانہ بشانہ روٹنا	جنع عَ ام کوفنی دارنخ
ڈکھی کنخ - دیلی کنخ	جگر کا خون	جنع عَ پھیرنخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	پرشتن
باز بیکار بیٹخ	آنکھوں سے گرنا	مگر، جہل بیٹخ
جنگ کشخ دبرا بیٹخ ع پیش ع	جنگ کے انجام کا کسی کو علم	پچ کہنیں گدے کس
گوشتہ نئے جنگ لغور د	نہیں ہو سکتا۔ جنگ ایک	زرات سکاں رو ت جنگ
بھڑیں ع سرا سہر ع کفت	بہانہ ہے۔ جس سے بہادر	ہے ہائے کہ مرد نا مرد ع
	اور ڈرپُک کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔	چکایت۔
متضاد چیزیں۔ ایک درسرے	یک دہمی ع ناہرخ۔ یک	جن ار گذا خو
دہمی ع شہ بد بر و رخ	کی صد	
پیاری باتیں کرنا۔ باتوں سے	دہش مجالس بیٹخ	بنن دالشخ
	مل بھانا	
بیوی ہو تو اس کے لئے زائے بیتہ تے پشکے دے	جنہا بل جامنگ گندی	جنہا بل بگان کنے دماواں
کپڑوں کا بندو لبست آسان ہے	بھمی	

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنہ
لغور بیٹھنے۔ نجا بیٹھنے۔ دل شکست ۽ نہ منع	اب کے مار تو دیکھوں	جن تے مس گندان
گہہ و بد کرنے۔ اشک دزدارا نہ خفخ	الفاٹ نہ کرنا۔ امیر کاساتھ دینا	ہر ان د ڈھلان کنٹ
ہر کس جواں بیتھے۔ پہ جوان ءے بھائے ندینی	اچھائی بے مول ہے۔	جو ان ڈغار ۽ ایزنت
چچڑو پھر بیٹھنے۔ بار بھرنغ کرنے۔	مکھی چوس بونا	جو فونغ ۽ چھاں کور نہ ملئ
اشاریں مژدم تک ۾ پوچھا بھریں اشرافیں مژد کلان انت۔	العاقل مکفیہ الاشارہ	جو این ۽ اشارت
بے بجے بیٹھنے۔ بر اجم بیٹھنے گھصیر کرنے۔ انگو آنگو کرنے	اچھے تمام انسانوں کے میں۔	جو این کس ٻہر نہ خلتفخت
آس ۽ شنخ۔ ڈروی کرنے	بے شرم ہونا	چل چم بیٹھنے
	لیت و لعل کرنا	چل د بڑز بیٹھنے
	اگ میں پھینکنا	چھڑاء جنخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
کوشش کرنے کی نفع	ابنی دس کرنا	جبرا فیض
بیکار نہیں درپہ دریٹھ	آوارہ پھرنا	جہان ملکہون
دوسرا آباد ہونا۔ ایمیر ہوتا پنڈت۔ مرکر کرنے	گھر آباد ہونا۔ ایمیر ہوتا بھیک مانگنا	جبرک عروض
دوہ عادیت - جمب عادیت	ست کرنا	جوں دار غ
		قبریت عادیت

پح

چاکر عادے گریتہ	زندگی میں بہادری کو بھی	زندگی میں بہادری کو بھی
کبھی نہ کبھی روزا پڑتال ہے	زندہ دلیل کسی سر عکیت	کبھی نہ کبھی روزا پڑتال ہے
چاکر کامارے کرنے	کارہائے نایاں سرانجام دینا	کارہائے نایاں سرانجام دینا
چہوانی براؤر یکخ	بازمزاں کی کارے کرنے	بازمزاں کی کارے کرنے
چہوانی فمز عاجس	ہر وقت سفر میں ہونا	ہر وقت سفر میں ہونا
چہہ دلیخ	لا جواب کرنا	لا جواب کرنا

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گلشن
بریں سون دے گبہ ڈسلا کنغ	راہ کاٹنا۔ بُرا شکون ہے کرنا۔ عزیزیوں میں فسق کرنا	ہپی کنخ ہپی چم دراستی ہم کنخ
اڑزانیں کار سے بیٹھ بیٹھنی کار	بانیں ہاتھ کا کام ہونا	ہمی دست و اہم بیٹھ
ازت نہ دینغ۔ دیم روزہ	عزت کرنا۔ رخ نہ دینا	چتری نیاد غ
گوں بیار نہاد کعنغ یوے نیئیں۔ کسی میں کار نیں	گپ بازی نہیں ہے	چتری ٹوکے نیئیں
ڈی ڈبے فامہ: ردنے	ڈنڈ بھرنا	چٹی کفع
مزن بیٹھ۔ پردہ بیٹھ۔ اکرنا	سمجدار ہونا۔ رہانت کئہ	چھپی راستی بیٹھ
آنکری بیٹھ	کو پہنچنا	
جوفغ نہ چان گور بیٹھ	کمھی چوس ہونا۔ کنجوس ہونا	چھڑپڑ جوپ بیٹھ
ٹوکانی ٹوک انت	باتیں ہی باتیں ہیں	چھڑمیں ٹوک انت

بلوچی حرف	اردو ترجمہ	گوشنے
ہمیران بیٹھن۔ دیل ۽ کفون۔	میصیت میں پڑنا	بڑو خال کفون
چیتا روغ		
خوار بیٹھن۔ بے عزت بیٹھن	کسی میں شمار نہ ہونا	پران در کفون
کس ۽ پول ۽ نہ خون		
اگر مغیر کفون۔ اگہہ پر کفون	ٹالا مشول کرنا۔	پران چری کفون
بارغ، اکستر، سومری، بو جلا،	سبک گام	چنک
مرگ، کاٹ، سال۔ گڑو		
بانجھر بھیل کفون	قتل عام کرنا	پک چنین کفون
چک اغز زہر گھیرت توہش	پئے کی صدر اور عورت کافرنہ	پک ڈگر دال ڈاشر
کتہ نئے		
زال اغز، شرعاً کن منہ داشتہ	دست دگر میان ہونا	پک تازٹ کفون
نئے۔ جھکڑا کفون۔ زاد کیت		
کفون		
مردم ۽ جندو، چک ۽ آغ	جما پر بننا	پک ۽ آغ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گرشن
قلقی دہا دروغ - پرانغ ہے میخ	دھوکے میں آنا	چکی دہا دروغ
نیں کہ سر عرب بئے نہ مژدم اپہاں کسے عَزَّ پَرْ بیل نہیں	الجھے کا تو سمجھے کا راہ تکنا	چک عَزَّ آتکہ ترپڑہ بئے چم پر راہ عَرب بئیخ
چھانی روڑنائی بیخ - دست بیخ -	آنکھوں کا تارا ہونا۔	چھانی نور بیخ
پس نیتھیں بیخ ہلاں نویو خیں کسوں دراٹیں لگ بے سر بے دمیں پچار	ندیدہ ہونا	چم شدی بیخ
وہش نیاخ - کار کنگ عَزَ زندہ کنگ -	داستان الٹ لیلہ ہونا	چم عَزَ جوڑ بیخ
تردیخ - بہترہ دین	آنکھیں دکھانا	چم عَزَ دُسخ
باز وہش بیخ	باچھیں کھلانا	چھانی دے کنداغ
سامکفع - ہال کوسنی بیخ	آنکھیں کھلانا	چم عَزَ پٹخ

گوشت

اردو ترجمہ

بلوچی ترجمہ

چالن شے ۽ چک ۽ دار غ	مکھلی باندھنا	چالن ڈک کنخ
موت ۽ دخت ڀئیخ ڦر غ ۽	موت سے پہلے آنکھیں اپر	چالن ٻڑا داسغ
دخت	رکانا	
سر ۽ ٻڌز کنخ	سراو نجا کرنا	چالن سبڑا کنخ
آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھا ڏکھ ۽ گندغ ـ بریں خبر سے	آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھا ڏکھ ۽ گندغ ـ بریں خبر سے	چالن آگہ ہمار بیئخ
اس کنخ ۽ گوں دل ۽ ڦر بیئخ	جانا ـ صدمہ پہنچنا	
بازیں غانی چک ۽ کنخ	آنکھ پھوٹنا	چالن کور بیئخ
چالان انسس ۽ آغ ـ ڦر بیئخ ،	آبدیدہ ہونا	چالان مکھل بیئخ
گریخ ، موچا بیئخ		
ڊفیخ ـ چالان گرم کنخ ـ مرگ ۽	آنکھ جھپکنا	چالان اولا کنخ
دعاو		
مردم ۽ مردم ۽ گندغ	آنکھیں چار ہوتا	چالان ڳجم ۽ گندغ
لا غر بیئخ ـ کا ہل بیئخ	آنکھوں کے گرد حلقة پڑنا	چالان کلانڈ ۽ کنخ
آنکھوں کا سرمه بھی اڑانا ـ (ربہت بڑا چور)	آنکھوں کا سرمه بھی اڑانا ـ (ربہت بڑا چور)	چالان سرینہ ۽ دسے بیئخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
چانی بیٹنے۔ دوست بیٹنے	آنکھوں کا تارا ہونا	چم ۽ دیدغ بیٹنے
اشارت کنخ چم ۽ بے اشارنا	آنکھ لڑانا	چم ۽ بھورینے
بُوٹنے و پشتنے		
دل ۽ اندر ۽ حند دینے	آنکھوں کا تارا بنانا	چانی اندر ۽ ہند دینے
باز دوست کنخ۔ شرہ جان ۽	سر آنکھوں پر بھانا	چانی چک ۽ فارغ
دوست فارغ		
باز باورا بیٹنے۔ دیوار ۽ پر زین	آنکھیں ترسنا	چانی پ گندغ ۽ کور بیٹنے
لغاه ۽ فارغ۔ شے ۽ دتی	نگاہ میں رکھنا	چم ۽ شیر ۽ کنخ
کنخ ۽ ٻهانی لغاه داری		
کنخ۔		
گوں دہش دل ۽ ٻهانی خوشی ۽	چشم ما روشن۔ دل ما شاد	چانی چک ۽
ترٹسخ۔ درینے ۽ کنخ	ڈرنا	چم ۽ جمع
دستان سا کنخ۔ خدمت کنخ	خیال رکھنا۔ عزیز رکھنا	چنکال آف دینے
بھور بھور کنخ۔ کشنے	ٹکڑے ٹکرے کرنا	چنگ چنگ کنخ

۶

گوشتیں	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
دان ۽ راجڑت	بھر کے مان کب تک خیر منائے گی۔	بزرگ ہر باکش جیت
دار دا سی ۾ میسر و پستی	لینے کے دینے پڑنا	کٹو دل ہند ۽ افغان زیستی تاکنخ - دا گریستن آرخ
دا پونز ڏکنخ	ناک میں دم کرنا	باذیں مورانی ریز رگردی
پوز جھگ ہیت	دو ملاڈن میں مرغی حرام	والی گر بازیت پچ ۽ پوز جھگ ہیت
مار سر زیستن	ایک چھپا در درسے کو نکالو	یک دروشم ۽ بنتن - یک داع و بنتن - پرک نوین
دار ڏیبا زیستن	بارہ بات ہرنا	ڈایوالہ بیتھن - لگھمرانی کاٹن
داد لا بیستن	لاڑلا ہونا - تحکیمیاں کرنا	ناز ۽ کنخ - زیاد کس نافع ڈال کنخ
دا پونز ڙ بیستن	پریشان ہونا ٿنگ ہونا -	تکیدیت - تایستہ - ڈری بیتھن

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتن
دالی ۱۰ شر پنج ہند بکتہ نئے شہ ویل ۱۰ دنار کشنخ	دالی سے بہت چھپانا جان بچانا - لکھ جانا	دالی ۱۰ شہ تاں ہند دمکین ۱۰ در برغ
دروغ ۱۰ روشن کم انت راستیں روک ۱۰ سخت	جو ٹکے پر ہنیں وقت گزارنا - پس جھوٹ	دروغ ۱۰ مزل گونڈیں دروغ درا ش کنخ
چڑائیں دروغ ہر روک کن ۱۰ - ہواں داج	مرا پا تھبٹ ہونا گبند کی صدا	دروغانی گلی بیٹخ دانگ ۱۰ دھڑو بیٹخ
راماں رد کنخ - دھوکر بازی کنخ شتعین سے پاشقین روک زکریت	دھوکر دیتا نکلا ہوا تیر والپس نہیں آتا	در نکاں پر بیٹخ در شتعین یور دست دئے
ضدی بیٹخ دیلی کنخ - تا در بیانی دیلی	قاییہ تنگ کرنا	در دی کنخ
دز ہربے حیاں ڈکتہ کت وز وز دے روشے ساد	چور جو چاہے کر سکتا ہے بکرے کی ماں کب یک خیر نایگی	دز بادشاہ لوغ دے بھور بی دز دمات ھکو ۱۰ عزہ پیشیت
باز گرانیں کار - ڈکھایاں	مشکل کام سرانجام دینا	دریا جھا گینخ

گوشتیں	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
گشی مژد و مزن شانیں		
دریائے چھاگنی گرانیں	(رحم علی مری)	
پور کی گھوڑی رجس کی نین ،	دز بُر مادن	دز بُر مادن کے جا ہے آئیں ،
لکام اور دوسرا چیزوں کا		جا ہے ٹاپیں - یک داج عَ
کوئی بوجڑ نہیں ملتا)		ز لغ
پور کی دار میں میں تکلا		دز بُر چم ڈُر گک
غلام ہانا		دز بُر کی انتہ دز قتار سہرا
دست بُرگ کرنا		کت .
خیرات دینا		بامدی کنخ - دست گند کنخ
پانچوں انگلیاں گھی میں		چم گند کنخ - مخراج کنخ
ما تھر پاؤں مارنا		خیرات کنخ
ات دکالی عَ مس دبویں		مراد عَ کنخ - سیر و سوکھانی عَ
ات دپار عَ جنخ		نذر ع
		دسس عَ کنخ - کاروں کنخ .
		کارے کشخ .

بلوچی	اردو ترجمہ	گوشنے
گیوار دست ع لانغ زان ہورو قول	خواتین کا مانگ پر ہاتھ رکھ کر سہاگ کی قسم کھانا	دست میں گیوار دھپاں
کامیں سو کامیں کار بنگلکار بوڑاں کفون - کلامکار کفون	چھوٹے موٹے کام	دستی پادی کار
دا لوٹن	ہاتھ پالی ہونا	دستان کفون
وٹ ع نیون - گر غ ع نیون دیر جزغ	ہاتھ اور سر کرنا - دعا مانگنا	دستانی بڑا آرعن
کار ع آڈخ - دستی پادی کار بھرا شیونخ	ہر مشکل آسان کرن والا	دست ع کوہ بیسغ
بے نازیں کار کنوخ - کار ع آڈخ	چھوٹے موٹے کام کرن والا	دست و پاد بیسغ
شے ع سنہڑا بیسغ	ہاتھوں ہاتھ لینا	دست و دست کفون
موت ع گندغ مرغ	ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہونا	دست و پاد ع ساڑت بیسغ
دل سوکنخ - دل ع بہر دکنخ	تسی دنا	دست ع ہٹنخ

گوشتمن	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
شتعین شرم گوزانان نوت	اب کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت	شتعین شرم گوزانان نوت
دست ڈملغ	امان کرنا کف افسوس ملنا	ہے بے کنغ - امسوڑ کنغ -
دست دپاد جنغ	ماخڑ پاؤں مارنا	ارمانی بیٹغ
دستان آغ	بستھے چڑھنا	دس ڈکنغ چیلا کنغ بوماڑ
دست ڈینگار بیٹغ	ماخڑ کا میل ہونا	کنغ -
دست دپاراں کنغ	پاؤں پڑنا	ہتھیکو کنغ دست ڈشیرا بیٹغ -
دستان شوداغ و ننداغ	نما مید ہونا	من کنغ مرکہ کنغ پاراں دست ڈلاع
دستان دیم ڈجنج	اپنے سوس اور ایمان کرنا - ما تم کرنا	بے امید بیٹغ نشتعین ارزان سر ڈجز غ

گوشن

اردو ترجمہ

بلوچی ترجمہ

دست د سراندی د لینغ د لینغ	گھوڑے یپع کر سونا	بے غم یشن بے ترس بیش
دست د پشت د کنخ	بہتر لوگوں میں ہونا۔	دست د سری کنخ - جو لیں ہندے عَ بیش

دف رانغ د کشخ

تیپھی کی سی زبان چنا

چھکڑا کنخ رشہ ٹوک داشتہ
خنخ

دف عَ پلخ

بات کہنے سے ججکنا

ہالوار د دف د شمش

دن بیش

سے باتوں کامنہ کھلتا

رائی بیش - ٹوک عَ کنخ عَ
دف د پلخ

۱ بسم اللہ کرنا

دف عَ جنخ

فضل باتیں کرنا۔ بے ہودہ
بے فائدیں ٹوک عَ کنخ

باتیں کرنا

دف عَ داش بیش

شیری زبان ہونا

لو انسرن بیش - دش ندان بیش

دف عَ ہش بیش

بولتی بند ہونا

ہیران و ہش بیش - د

ٹوک عَ در کنخ -

ٹوکی بیش - جنے جنخ - دل دل کیتھ

دف د دنمان بیش

گوشت

اردو ترجمہ

بلوچی ترجمہ

دن ۽ چیو جینخ	من پر کنکر شرمندہ کرنا	دیم پدیم ۽ گشنخ
دن ۽ سہارا بیٹخ	باقلوں کا دھنی ہونا	دخنی یئنخ - چالاک ہونا۔
دن ۽ ریند دینغ	غلط بات کہنا	دروغ ۽ بندوغ - دوزدا الی کنخ
دن ۽ دوشخ	پنبہ دردہان ہونا	چپ کنخ و نذرخ
دن ۽ زمب ۽ نگندوغ	کھانے کو متحارج ہونا	نگھڑ بیٹخ - شدی بیٹخ - گریو بیٹخ
دن ۽ شیر ۽ لجر ۽ آغ	نا تحریر کار ہونا - منہ سے	نا پورہ یئنخ - ناممکن یئنخ
دن ۽ دودھ کی برآنا	منہ کو مکن	دن ۽ چاری یئنخ
دن ۽ آف بیٹخ	منہ میں پانی آنا	شے ۽ نام گرغ ۽ گوں دن ۽
آف یئنخ - باڑا بیٹخ	فیصلے کی صورت پیدا کرنا	ہیسر کنخ ۽ پہ یک دہی ۽
دگ ۽ دینغ	ڈک بنخ	
اگ ۽ ڈوک ۽ کنخ	قاعدے کی بات کرنا	دستور درواج ۽ ڈوک ۽ کنخ
اگ ڏا شون دینغ	اچھا مشورہ دینا	دگ ۽ ڈسخ - پوکنخ بجا میں سلاہ

دیلی بیٹھ - انڈھوال کفغ - دردن بیٹھ	ہوالی قلعے بنانا دل کا خون ہونا -	دل اہارانی آف ڈریلن دل چک ہون ڈندن دل ڈف آغ دل ڈف آغ دل سو ڈریلن دل دھرے بیٹھ
دل ڈا نے بیٹھ - ترنسن دصیر و ڈریلن - لبس جما کئے دیل ڈریلن - ڈوگ ہارہ مونز دغڑا درونخ	لیجہ منہ کو آنا دلسر دینا دردرسر ہونا	دل بھر جانا جي لگانا جي گھبرا نا پیارا ہونا
گوں دل کار - ڈکٹن ترنسن درست بیٹھ		دل سیر بیٹھ دل ڈریلن دل ہول ڈر کشن دل ڈگوڑو بیٹھ
باز درست کفغ - شہ چمال شان دیم کفغ	لیکھ سے ہ لکائے رکھنا	دل ڈنداں دارغ
مظلوم ڈیلو بیٹھ - کارہ بیٹھ	امید بر آنا	دل کار بیٹھ

دل نہ پنڈغ	مغور ہونا	آکیڑھ کرنے۔ سکبر کرنے
دل نہ پرینے	نا اسید ہونا	سیل نہ اٹنے۔ بے اسید بیٹھنے
دل دری کرنے	ہمدردی کرنا	پڑسخ دھیان نہ رینے
دل نہ بھڑ کرنے	دل گڑا کرنا۔ دل مصبوط کرنا	ڈکھ نہ پر عاد نہ نہنچنے
دل کر دست گیدی دزت	خود چور جہاں چور	دز نہ جا سجوئیں دینا دزت
دل نہ بھاسانی گشتنے	دل کا بخار آتا رہنا	خوشائی کشتنے۔ او ماں نہ کشتنے
دل نہ چندغ	یاد کرنا۔ سوچنا	گنترنی کرنے۔ دل نہ جھیر گنے
دل نہ دناد نہ اپر روغ	آنکھ آنا	وہا دناد نہ آر گ۔ وہا عا مینے
دل نہ پر بیٹھنے	دل کا بھرا آنا	دل نہ بارغ بیٹھنے۔ چمانی کلکل
	دل منی کھڑی پڑ بیتہ	بیٹھنے۔ بگرینے نہ آر گ
ترسائی ڈوب رہ بھورنی (حداشتک)		
ڈا آس نہ کفونے	دل میں آگ لگنا	دل نہ آخونے۔ ارمان کرنے۔ ٹہالی بلغ
اکڑ دیتھنے	کسی پر دل آنا	وہش کرنے۔ پسند بیٹھنے

بوجپی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
ہمہت دینے	دل کو ڈھارس دینا	دل عَ پوکنے
دل دیر کنخ - تاکنخ - زہر آرخ -	جی توڑنا	دل عَ مجوہ بیٹھنے
دل عَ ڈُک عَ کشخ - نیت پھر کنخ	آزمانا	دل عَ پولنے
دہش کنخ	دل لگنا	دل عَ مان آئنے
لوٹ کے دہش آئنے - راستیں	دل لگنا پسند آنا	دل عَ سیہنے
مالوار عَ موہو بیٹھنے	دل پر نقش ہونا	دل عَ چک عَ ہر بیٹھنے
پیڑنے شموشخ	اوپرے دل سے	دل عَ پشت عَ شے
پناسی ٹوک عَ کنخ - دل عَ	لکھم منہ کو آنا	دل عَ آٹ بیٹھنے
سربر عَ شے	فیحیت پر کان دھرننا	دلکوش عَ دارخ
ترطیخ - ہر ہم کنخ		
ٹوک جوان عَ اشن کنخ ہالا		
منخ		

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشت
مزن دل بیٹھ - کسائیں شے	دل بڑا کرنا	دل ۽ مزن کنون
آلن پرداه ۽ ختنخ		
دل ۽ شنگینخ	دل کامکڑ سے ڦکڑ سے ہونا	دل ۽ کرم بیٹھ
وصرد ۽ مہک بیٹھ - دل ۽ کرک کنون	ہتھیلی کا پچپھو لا	دل ۽ کرم بیٹھ
ہردا جے ۽ بی - زمین ک	ادھر ک دنیا ادھر کیوں نہ ہو	دنیا پکے مریشی
آزمان یک ٿپے مویت	جسم کا وہی حصہ دکھتا ہے۔	دور ٻاز نئیں ہند بیت
سادشہ بار غیں ہند ۾ مدیت جو زخمی ہو۔		
باندیں ک مردم وق حادوء	دو بھائیوں کو جی اپنا حساب	دوبرات سیمی حاد
صاف بکنت	صاف رکھنا چاہیئے۔	
دوزداں د دو تل - کسی فیغ	دو کشیتوں کا سوار	لا ما دری مrtle پ لاغری
هر کس ۽ در غیں ز دان ۽ دیونخ۔		

بُلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	ہستیر
دُوستی ئَکم بِیشْ - دُوستی ئَعْ بھرغ -	محبت میں کمی آنا	دُوستی ئَمہک ئَکفْنغ
با ز سنه ٹرا نِيشْ - بے عیوب بیشْ	بے عیوب ہونا - از خلخو لصوت اور خوب سیرت ہونا -	دوازدھیں بندال عیو عزویغ
دوازدھیں بندال نیستنی عیوس اگھاں		
سہوتی ٹوک ڈلت چوتار وحی با گھاں - دمـت		
دو دل کر رازی، پھے ملائے دو دل جب راضی تو ملا اور دو مژدم ااغ دتی سودائے		
قاضی شادی کو کیسے روک کفْنغ ئَپ پ تیار بنت . تـ		
عالم داشتہ نختیش - سکتے ہیں -		
تـ آنی ٹوک ئَگر غـ سـ دل ئَکار نخنـغ -	دوسرے کے کہنے پر عمل کرنا	دہی آنی گشتی ئَبیشْ
خدمت کفْنـغ - ٹوکانی سـبغ - دـ		
چاری بـیشْ		
چند ئَپرہسا بـخـ و حـلال ئَکـٹـوـ	حلال کی کمائی	دوازدھیں موڑ و غـانـی چـونـڈـی

گوشتی	اردو ترجمہ	بلوچی ترجمہ
دیز عَ اگر دغ	کام کا نکنا	کار عَ بیٹھ
دیم عَ پر کری آن دین	منہ کا لائکرنا	دیم عَ سیاہ کنخ - خوار کنخ
ڈاچی بپت ہند عَ میری	ادھرنی پیشاب سات جگہ پر بد خود گشت - بے آرام کرتی ہے	
ڈنار عَ گندرغ	شکست کھانا	زمین عَ ایر بیٹھ - دھس جین
ڈلخ عَ بجن عَ لگھڑیں	فاقوں پر فاقے ہوتا	واڈ لغ عَ روز آنکہ تہ مژدم لگھڑت
ڈلغ پھے ڈلغ عَ بسم اللہ پھے کیا پڑی کیا پڑی کا شورہ		
ڈندی بیٹھ	ٹابت قدم رہنا	چنگ عَ جکنخ - مڑغ
پچے پچ فتح خان عَ بیٹغاں ڈمٹی		
دشمن عَ تو پانی دف عَ نذی	(ترجمہ علی مری)	

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتن
باز بیشتر بیٹھنے۔ عقائدہ بیٹھنے	کوئے کا گوشت کھانا۔ غیر معمول طور پر ہو شیار ہونا	ڈو ڈو زارک اُ پمنزینجی
دل و ساڑت کرنے۔ دل و خیروشان کشنا	حسرت پوری کرنا۔ یکجا جھنڈا کرنا۔	ڈو برء ساڑت کرنے
بدنام کرنے۔ کوچہ کرنے۔ ڈھینہ کرنے	بدنام کرنا	ڈو ڈو اُ بندغ
ڈومب ۽ گوں ڈغار ۽ پے کارنے	میراثیوں کا زمینداروں سے کیا تعلق۔	ڈو مبانی چے ڈغارے
پگندت ڈو برء ساڑت کرنے کندر کرنے۔ بد نام کرنے	دیکھنے ڈو برء ساڑت کرنے	ڈھڈر اُ ساڑت کرنے
و بیان بیٹھنے۔ بروبر دیگ بیٹھنے مال گوں ساد ۽ ٻے مردم گوں	الوبونا	ڈھینگ اُ رُنگ
عَدِیْغ عَبَا بَنْدِیْت	جانوروں سے اور انسان زبان سے قابو میں آتا ہے	ڈھور عَبَّیْم ریز عَدِیْم ٻِرڈم ٻِ

بلجی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتیں
ہر ہندوئے نہ دو ہواں ہندوئے دم عَگر گھٹیں جو او عَدین زورا خانی دے زورا خ استنت ڈغار عَگوں کے ہو دیر بیخ عَ مزن سما آغ ٹلری عَہاس بیخن۔ بیکار بیخن	جیسا دلیں دیسا بھیں انکار کرنا ہر فرعون نے راموسی آنکھ کا کاٹا ہونا دلیوالیہ ہونا۔	ڈیہ بیت عَ میل ڈپ عَ ڈسخ ڈنٹرانی دے ڈائیٹرا استنت ڈیہ بی پرہوان بیخن ڈیوالہ بیخن
تمن سٹردار عَگوں مہاند رانت تو م اچھے رہبروں کے زیر سایہ بی ترقی کرتی ہے۔	R	راج دس انت سائے سٹرداراں

بلوپری ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشتن
توںی عَنْهُ خُلْعَةٌ	ہمت ہارنا	رامڑ عَكْفَنْ وَ كَفْعَنْ
دِبْمی عَدْشَةٌ وَ دَقْنَةٌ	ٹانگ اڑانا - پنجے کاٹانا	راخندی اڑائیسْنَه
وَ لَالْبَخْ		
وَ خَاتَنَى كَافْنَهُ	چھاتیسا رت گزارنا	راست و دکون کعن
بَيْحَانُ بَيْهُنْ كِيمَنْهُ بَيْهُنْ	کینگی پر اترانا	رخت عَ رَا دِلْعَنْ
ہر کس دلی داجے ناں گوں	کبوتر کبوتروں کے عنول اور	رڈ گوں رڈ عَ سون مردات
سنبھرا انت	باز باز کے عنول میں اچھا	
	لگتا ہے	
بھڑیں مرڈاں پر دوست باز	کاؤ خصم سے نہیں چاہا	رسْتَغْیِسْ بچاں پت
انت		عام جہان بازفت
ذہر عَ گوں جوڑاں گھی کعن ذہر	تپچ دتاب کھانا	رکان دلْعَنْ
گرع		
درغ - تلی دلْعَنْ	نوش کرنا	رکان دارغ
رکانی ماخنی تک ترغ	تمک جانا - تھکا وٹ کی وجہ	
	دم برغ - مانغ	
سے ہر بیرون کا پتلایہ شنا		

گوشن

اردو ترجمہ

بھوپالی ترجمہ

رنیش گودان عادن واریغ دھوکہ میں رکھنا
پرامنگ سلا بلاہیل کنیت نسخ۔

رنگ ذہب تہ لاشار میں اگر میرے اپنے مجھے نہیں وقت انہ جند عزت تہ
بلوچ بلات انت۔ اپناتے تو میں دوسروں کو من درگاں وقت کن اپناوں گا۔

زندانی تاریخ کسی پر جانا دارے سر بلیخ
رنگ رنگ بیٹخ ایک رنگ کا آنا۔ اور دسرے کے ہم شکل بیٹخ دا گرینج
رنگ کا جانا۔ ع آغ

رنگ ہ سہری الٹی بیٹخ غصے سے لال پیدا ہونا۔ شہزادہ رنگ ہ سہری بیٹخ
روش ہ سال بیٹخ دن کا سال کے برابر ہونا دخت ع گزغ
وقت ن گٹنا

روش ع ایر برع صحیح کا شام کرنا روشنائی شف کنخ
روشنائی سکنخ زندگی کے دن کا طنا پہ دیالا دخت ع گواز بیٹخ
روغ دارغ ع بند کنخ قطع تعلق کرنا زہر گراغ رنج بیٹخ

بلوچی ترجمہ	اردو ترجمہ	گوشنے
دل ۽ دف ۽ آنگ بارڈل	کلیجہ منہ کو آنا	روتاں بوڑھا رشغ
بیٹھ	.	.
کم عقل بیٹھی نہ جانا بے وقوف	کچھ بھی نہ جانا بے وقوف	رہ و بُدھہ پوہ نویلغ
بیٹھ	ہونا۔	.
شرط باندھنا - دارالحکمی کی	شرط باندھنا	ریشانی ہشکی سالغ
شرط کنخ	شرط باندھنا	.
قسم ۽ یک بھیرے	دارالحکمی کی قسم کھانا	ریشانی کند کنخ
بلوچ قوم کا ایک قول کر زیکا طریقہ ہے جس میں قسم کرنیوالا اپنی دارالحکمی کو سامنے سے تقریباً دو انگل جنئے دارالحکمی پر استراپھرتے ہیں ۔ اور جس کام کے لئے قسم کھائی تھی ۔ اس کے پورے ہنے تک استراپھرتے رہتے ہیں ۔	بلوچ قوم کا ایک قول کر زیکا طریقہ ہے جس میں قسم کرنیوالا اپنی دارالحکمی کو سامنے سے تقریباً دو انگل جنئے دارالحکمی پر استراپھرتے ہیں ۔ اور جس کام کے لئے قسم کھائی تھی ۔ اس کے پورے ہنے تک استراپھرتے رہتے ہیں ۔	.

ہماری مطبوعات

نمبر شمار	نام کتاب	مدونہ کام	تیکت
۱	چاکھا، گفتار	حاجی مومن بزدار	۱/۵
۲	کائن اشعار	فیضیں	۱/۴۵
۳	توکلی مت	میر شاخان می	۲/۵۰
۴	گیدی قصہ اول	لانگوں نظر دیز۔ کو پناہ	۳/۰
۵	گیدی قصہ دوم	خود مری	۳/۵۰
۶	گیدی قصہ سوم	اماں اللہ غازی	۴/۰
۷	گیدی قصہ چہارم	میر لکڑا خان می	۴/۰
۸	گیدی قصہ پنجم	حاجی مومن بزدار	۱/۵
۹	گیدی قصہ ششم	خود مری	۸/۵۰
۱۰	گیدی قصہ سیشم	میر عاقل خان مینگل	۵/۰
۱۱	گیدی قصہ سیشم	حاجی مومن بزدار	۶/۰
۱۲	گیدی قصہ نہم	میر لکڑا خان می	۱۳/۰
۱۳	رپنگیں لاں حصہ اول	غوث بخش صابر	۱/۵
۱۴	رپنگیں لاں حصہ دوم	پیر محمد زیریانی	۱/۵۰
۱۵	رپنگیں لاں حصہ سوم	یوسف گلی	۱/۰
۱۶	رپنگیں لاں حصہ چہارم	پیر محمد زیریانی	۲/۵۰
۱۷	رپنگیں لاں حصہ پنجم	حاجی مومن بزدار	۲/۰
۱۸	بل دگوار	غوث بخش صابر	۳/۰
۱۹	پنگ و بلور	میر محمد سردار خان بلوچ	۳/۵۰

بلوچ اکڈھے کوئٹہ